

سنده ایکٹ نمبر XXVIII محریہ 1994

SINDH ACT NO.XXVIII OF 1994

کو شل ڈولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ، 1994

THE COASTAL DEVELOPMENT AUTHORITY

ACT, 1994

(CONTENTS) فہرست

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

.1. مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

.2. تعریف

Definition

.3. اتھارٹی کا قیام

Establishment of the Authority

.4. انتظامیہ

Management

.5. گورنگ بادی کی تنقیل

Constitution of the Governing body

.6. چیئرمین

Chairman

.7 کام

Functions

.8 کمیٹیوں کی تشکیل

Constitution of Committees

.9 گورنگ بادی کی میٹنگ

Meetings of the Governing body

.10 اختیارات کی منتقلی

Delegation of powers

.11 افسران کی عملہ کی تقری وغیرہ

Appointment of officers staff etc

.12 اہم منصوبہ

Master Plan

.13 اسکیمیں

Schemes

.14 ملکیت

Property

.15 فنڈ

Fund

.16 بجٹ

Budget

.17 اکاؤنٹس سنجھانا

Maintenance of accounts

.18.	سالانہ رپورٹ	Annual report
.19.	بقا یا جات کی وصولی	Recovery of dues
.20.	دائرہ اختیار پر پابندی	Jurisdiction barred
.21.	کاروائیوں کو موثر ہونا	Validation of proceedings
.22.	ضمانت	Indemnity
.23.	قواعد	Rules
.24.	ضوابط	Regulations
.25.	منسوخی	Repeal

سنده ایکٹ نمبر XXVIII مجریہ 1994

SINDH ACT NO.XXVIII OF 1994

کو سٹل ڈولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ، ۱۹۹۴

THE COASTAL DEVELOPMENT

AUTHORITY ACT, 1994

[۱۹۹۴ء، نومبر ۲۹]

آرڈیننس جس کے ذریعے ضلع ٹھٹھہ اور بدین کے ساحلی علاقوں کی ترقی، بہتری اور خوبصورتی کے لیئے اقدام اٹھانے جائیگے اور اس مقصد کے لیئے اتھارٹی قائم کی جائیگی؛

تمہید (Preamble) جیسا کہ ضلع ٹھٹھہ اور بدین کے ساحلی علاقوں کی ترقی، بہتری اور خوبصورتی کے لیئے اقدام اٹھانے اور اس مقصد کے لیئے اتھارٹی قائم کی جائیگی؛ اس کو اس طرح عمل میں لا یا جائیگا:

مختصر عنوان اور شروعات (1) اس ایکٹ کو کو سٹل ڈولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ، ۱۹۹۴ء کاہا جائیگا۔
Short title and commencement (2) یہ فی الفور نافذ العمل ہو گا۔
commencement (3) اس کی ساحلی علاقوں تک توسعہ کی جائیگی۔

تعریف 2. اس ایکٹ میں جب تک کچھ مضامین اور مفہوم کے مقتضاء ہو، تب تک:
Definition (a) ”اتھارٹی“ سے مراد دفعہ ۳ کے تحت قائم کی گئی اتھارٹی؛
(b) ”چیز میں“ سے مراد گورنگ بادی کا چیز میں؛

- (c) "ساحلی علاائقوں" سے مراد ضلع ٹھہرے اور بدین کا ساحلی علاائقہ جیسا حکومت کی جانب سے بیان کیا گیا ہو؛
- (d) "فند" سے مراد اتحاری کافند؛
- (e) "گورنگ بادی" سے مراد دفعہ کے تحت بنائی گئی گورنگ بادی؛
- (f) "حکومت" سے مراد سندھ حکومت؛
- (g) "اہم منصوبہ" سے مراد اس ایکٹ کے تحت تیار کردہ منصوبہ؛
- (h) "ممبر" سے مراد گورنگ بادی کا ممبر؛
- (i) "بیان کردہ" سے مراد اس ایکٹ کے تحت بنائے گئے قواعد اور ضوابط کے مطابق بیان کردہ؛
- (j) "قواعد اور ضوابط" باترتیب سے مراد اس ایکٹ کے تحت بنائے گئے قواعد اور ضوابط؛
- (k) "اسکیم" سے مراد اس ایکٹ کے تحت تیار کردہ، کام کردہ یا مکمل کردہ اسکیم؛

باب-II

اتھاری کا قیام اور کام

Chapter-II

Establishment and functions of the Authority

- اتھاری کا قیام
Establishment of the Authority
- (1).3 اس ایکٹ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک اتحاری قائم کی جائیگی، جس کو کو سٹل ڈولپمنٹ اتحاری کہا جائے گا۔
- (2) اتحاری بادی کا روپیٹ ہو گی، جس کے پاس حقیقی جانتیں اور عام مہر کے ساتھ دونوں قسم کے متحرک اور غیر متحرک ملکیت حاصل کرنے اور رکھنے کا اختیار حاصل ہو گا، اور مندرجہ نام سے کیس کر سکے گی اور اس پر کیس ہو سکتا

ہے۔

(۳) اتحاری کا ہیڈ کوارٹر کراچی یا ساحلی علاقوں میں ایسے دوسری جگہ پر ہو گا، جیسے حکومت نوٹیفیشن کے ذریعے مقرر کرے۔

4. انتظامیہ Management
- (۱) اتحاری کی عام ہدایت اور انتظامیہ اور اس کے معاملات گورنگ باؤنڈی کے پاس ہونگے، وہ تمام اختیار استعمال کریں اور ایسے اقدام اٹھائیں جو اتحاری کی جانب سے استعمال کیئے اور اقدام اٹھائے جائیں۔
- (۲) گورنگ باؤنڈی اپنے کام نبھانے میں ساحلی علاقوں کی منصوبہ بندی، ترقیاتی عمل، انتظام اور دیکھ بھال کے مستند اصولوں پر عمل کرے گی اور حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایسی ہدایات کے ذریعے پالیسی کے سوالات پر رہنمائی کی جائیں۔
- (۳) اگر کوئی سوال ابھرتا ہے کہ وہ معاملات پالیسی کا ہے یا نہیں، حکومت کا فیصلہ حتیٰ ہو گا۔

5. گورنگ باؤنڈی کی تشکیل Constitution of the Governing body
- (۱) گورنگ باؤنڈی چیئر مین پر مشتمل ہوگی، جو حکومت کی جانب سے مقرر کیا جائیگا اور مندرجہ ذیل ممبرز پر:
- (a) حکومت کے مندرجہ ذیل محکمہ جات کے سیکریٹریز:
 - (i) محکمہ منصوبہ بندی و ترقی۔
 - (ii) محکمہ خزانہ۔
 - (iii) فاریست اور لائیو اسٹاک محکمہ۔
 - (iv) محکمہ ایریگیشن اور پاور۔
 - (v) محکمہ زراعت اور واکلڈ لائیف۔
 - (vi) محکمہ ثقافت اور سیاحت۔
 - (vii) محکمہ مکانی حکومت، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور روول ڈولپمنٹ۔

	<p>(viii) محکمہ کیوں نیکشن اور رکس۔</p> <p>(ix) محکمہ ہاؤسنگ ٹاؤن پلانگ، کچی آبادیز اور ماحولیات۔</p> <p>(b) کمشنر حیدر آباد ڈویژن۔</p> <p>(c) صوبائی اسمبلی سندھ کے دو ممبرز ہر ایک ٹھٹھے اور بدین ضلعے سے وزیر اعلیٰ کی جانب سے نامزد کیتے جائیں گے۔</p> <p>(d) صوبے کے دو نامور ایسے افراد وزیر اعلیٰ کی جانب سے نامزد کیتے جائیں گے۔</p> <p>(۲) گورنگ بادی ایسے دوسرے افراد کو ممبر زکی حیثیت سے مقرر کر سکتا ہے، جب تک پہلے سے استعفیٰ دے یا ہٹایا جائے۔</p> <p>(۳) نان آفیشل ممبر تین سال کی مدت تک عہدہ رکھ سکتا ہے، جب تک پہلے سے استعفیٰ دینے یا ہٹائے جائیں گے۔</p> <p>(۴) نان آفیشل ممبر زکی عہدے پر عارضی آسامی پر مقرر کردہ کوئی شخص ایسے آسامی کی بقا یا مدت کے لیے عہدہ رکھ سکتے ہیں۔</p> <p>(۵) اتحاری نان آفیشل ممبر زکو ایسا معاوضہ دے گی، جیسے وہ طئے کرے۔</p> <p>6. (1) جب تک حکومت دوسری ہدایت نہیں دے چیز میں پانچ سال کے لیے ایسے شرائط اور ضوابط کے تحت عہدہ رکھے گا، جیسے حکومت طئے کرے۔</p> <p>(۲) چیز میں اپنی مدت کی ختم ہونے پر دوبارہ مقرری کے لیے اہل ہو گا دوسری مدت کے لیے یا ایسی کم مدت کے لیے جیسے حکومت طئے کرے۔</p> <p>(۳) چیز میں اتحاری کا چیف ایگزیکیوٹو ہو گا۔</p> <p>(۴) چیز میں اور ممبر زکی ذمے داریاں ادا کرے گے اور ایسے اختیار استعمال کرے گے جو ان کو اس ایکٹ کے تحت حوالے کیتے گئے ہیں۔</p> <p>(۵) جب چیز میں کسی وجہ سے ڈبوٹی سے غیر حاضر ہے یا اپنی آفس کے کام</p>
--	--

<p>کام Functions</p>	<p>سر انجام دینے کے قابل نہیں ہو گے کہ، حکومت گورنگ بادی کی کسی ممبر کو چیزیں کی ذمے داریاں سر انجام دینے کے لیے نامزد کر سکتی ہے۔</p> <p>7. حکومت کی عام یا خاص ہدایات کے مطابق، اتحارٹی:</p> <p>(۱) ساحلی علاائقوں کی ترقی، بہتری، خوبصورتی اور کو آرڈینیشن کے لیے ذمے دار ہو گے۔</p> <p>(۲) مانیٹر گنگ ڈولپمنٹ اسکمیں / سرگرمیوں کے شناخت، کو آرڈینیشن، ایگزیکیوشن کے لیے ذمے دار ہو گے، جو مندرجہ ذیل گنجائشوں پر مشتمل ہو گی:</p> <p>(a) پینے کے پانی کی سہولیات، رابطے کا نظام، بجلی، ڈرنچ، سیاحت اور روول ڈولپمنٹ ورکس؛</p> <p>(b) تعلیمی، فنی اور پرو فیشنل اداروں کا قیام؛</p> <p>(c) فشریز، لا یو اسٹاک، ہار ٹیکلچر، فاریسٹ اور زراعت کی ترقی؛</p> <p>(d) زراعت، لا یو اسٹاک، فشریز، صنعتوں اور دیگر منسلک معاشی سرگرمیوں کی ترقی کے لیے مقامی / غیر ملکی کریدڑس؛</p> <p>(e) مارکیٹنگ سہولیات کی ترقی؛</p> <p>(f) جیٹریز اور بندرگاہ کی تشکیل؛</p> <p>(g) رہائشیوں کی سماجی معاشی حالات کی ترقی اور بہتری؛</p> <p>(h) این جی او ز کو فروغ دینے اور علاائقوں کی ترقی کے لیے ترقیاتی اسکیموں کے لیے مالی مدد میں تعاون کرنا؛</p> <p>(i) کاروباری ترقی کا اہتمام کرنا؛</p> <p>(j) علاائقے میں انسانی اور دیگر وسائل کی ترقی؛</p> <p>(۳) وفاقی اور صوبائی حکومتیں یا کسی مقامی اتحارٹی یا خود اختیار ادارہ کی</p>
--------------------------	---

مربوط ایجنسی کے طور پر کام کرنا؛

(۳) ترقیاتی سرگرمیوں اور ماحولیاتی تحفظ میں مشغول وفاقی یا صوبائی، عوای
یا نجی ایجنسیوں سے تعاون کرنا؛

(۴) فنی رہنمائی کرنا بشمول فنی خدمات کی اور ترقیاتی سرگرمیوں کی ترقی یا
تعاون کرنے کے لیے شخص فرماہم کرنا؛

(۵) وفاقی یا صوبائی حکومت کی جانب سے سونپے گئی اسکیموں کا کام مکمل
کرنا؛

(۶) ساحلی علاائقوں سے مسلک مختلف سرگرمیوں کی ترقیاتی منصوبہ بندی
میں تحقیق کرنا؛

(۷) منصوبہ بندی اور ترقی سے مسلک ادب مرتب کرنے میں ترقیاتی
کاموں میں مشغول یادچیپی رکھنے والے افراد اور ایجنسیوں میں تقسیم کرنا؛

(۸) مسلک شعبوں میں منصوبہ بندی اور ترقی پر تربیت پروگراموں اور
سینیمازوں کا اہتمام کرنا اور ان کا انعقاد؛

(۹) کھجور اور ناریل کے تیل کے باغات کے قیام میں مدد اور ہم آہنگی پیدا
کریں اور ان کے نچوڑ اور صفائی کا انتظام کریں؛

(۱۰) کیٹی بندر اور / یا کسی اور ممکنہ مقامات پر فش بندرگاہوں / کمنی /
گہری بندرگاہ کی ترقی میں معاونت اور ہم آہنگی پیدا کریں؛

(۱۱) تیل کی منتقلی کے لیے پائپ لائز فراہم کرنے کے ساتھ آئل
ریفارٹری کے قیام میں مدد اور تعاون کرنا؛

(۱۲) ایسے دیگر کام سرانجام دینا جو اتحارٹی کے مقاصد حاصل کرنے کے
لیے ضروری ہو؛

۸. گورنگ بادی، اس ایکٹ کے مقصد حاصل کرنے کے لیے مالیاتی، فنی،
کمیٹیوں کی تشکیل

Constitution of Committees	ایکزیکوٹو کمیٹیاں بناسکتی ہے۔
Meetings of the Governing body	9. گورنگ باؤڈی ایسی جگہ اور وقت پر میٹنگ کریگی اور ایسے طریقے اور طریقے کار کے ایسے قواعد کا مشاہدہ کریگی جیسے بیان کیا گیا ہو، بشرطیکہ جب تک انداز یا طریقے کا بیان کیا جائے، میٹنگ چیئرمین کی ہدایت کے مطابق طے کی جائیگی۔
Delegation of powers	10. گورنگ باؤڈی عام یا خصوصی حکم کے ذریعے اپنے اختیارات، فرائض اور فرائض میں سے کسی کو اتحارٹی کے چیزیں، ممبر یا کسی بھی افسر کو منتقل کر سکتی ہے۔
Appointment of officers staff etc	11. اپنے فرائض کی موثر کار کردگی کے لیے، اتحارٹی ایسے عملدار، ماہر، مشیر وغیرہ اور ملازم ایسے شرائط اور ضوابط کے تحت مقرر کر سکتی ہے، جیسے بیان کیا گیا ہو۔

باب-III اہم منصوبہ اور اسکمیں

Chapter-III

Master plan and schemes

اہم منصوبہ
Master Plan

(1) اتحارٹی جتنا جلد ہو سکے ایسے ساحلی علاائقوں کی ترقی، بہتری، توسعہ اور خوبصورتی کے لیے اہم منصوبہ تیاری کریں، جس کی ترقی، توسعہ اور خوبصورت بنانے کی ضرورت ہو اور ایسے منصوبے حکومت کی منظوری کے لیے پیش کرے گی۔

(2) حکومت ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر اس منصوبے کی منظوری دے سکتی ہے۔

اسکمیں
Schemes

(1) اتحارٹی ساحلی علاائقوں یا اس کے حصے کے لیے ترقیاتی اسکمیں تیار کریا تیار کرنے کی وجہ بن سکتی ہے، ایسے طریقے اور اس طرح جیسے بیان کیا گیا ہو۔

(2) اتحارٹی کی جانب سے تیاری کردہ تمام اسکمیں منظوری کے لیے حکومت کو جمع کرائی جائیگی، جو تبدیلیوں سے یا تبدیلیوں کے بغیر منظور کی جائیگی۔

باب-IV

جائزیاد کا حصول

Chapter-IV

Acquisition of property

ملکیت

14. اتحارٹی، متعلقہ فریق سے معاہدہ کر کے کسی دوسرے منقولہ یا غیر منقولہ

Property جائداد یا اس میں کوئی دلچسپی لینے، خریداری، لیز یا تبادلہ، ہو سکتی ہے۔

15. جہاں اتحارٹی کی رائے ہے کہ کسی بھی اسکیم یا دیگر عوامی مقاصد کے لئے درکار زمین کسی بھی دفعہ ۱۲ کے تحت حاصل نہیں کی جاسکتی ہے، ایسی زمین حیدر آباد ڈوبلپمنٹ اتحارٹی ایکٹ ۱۹۷۶ اور حیدر آباد ڈوبلپمنٹ کے حوالے سے کسی بھی حوالہ کے مطابق حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس ایکٹ میں اتحارٹی کو اتحارٹی کا حوالہ سمجھا جائے گا۔

باب-V

مالیات

Chapter-V

Finances

- (1) ایک علیحدہ فنڈ کو سٹل ڈوبلپمنٹ اتحارٹی فنڈ کے نام سے جانا جائے گا جو اتحارٹی میں بنائے جائیں گے۔
- (۲) اتحارٹی اس کے ذریعہ فراہم کی جانے والی سہولیات اور خدمات کے استعمال کے لئے عائد کیے جانے والے پیمانے پر فیس لگائے گی۔
- (۳) فنڈ ز مشتمل ہونگے:
- (a) گورنمنٹ یا لوکل کونسلز یا کسی اور ڈونر ایجنسی کے ذریعہ دی گئی گرانٹ؛
 - (b) اتحارٹی کی متحرک یا غیر متحرک جائزیاں کے سیل پرو سیڈز؛
 - (c) اس ایکٹ کے تحت حاصل کردہ تمام فیس، رسیدیں اور چار جز؛

	(d) اخراجی کے ذریعہ حاصل کردہ دیگر تمام رقوم قابل وصول اور قابل قرضہ:
Budget Budget	(1) ہر مالی سال کے لیئے تخمینہ لگائی گئی رسیدیں اور خرچے کا بیان تیار کیا اور اس طرح حکومت کو جمع کرایا جائیگا، جیسے بیان کیا گیا ہو۔ (2) حکومت تبدیلیوں سے یا بغیر تبدیلیوں کے بجٹ منظور کر سکتی ہے۔
Maintenance of accounts	(1) اخراجی کے اکاؤنٹس اس انداز میں اور اس طرح رکھے جائیں گے، جیسے بیان کیا گیا ہو۔ (2) ذیلی دفعہ (1) کے تحت رکھے جانے والے اکاؤنٹس آڈیٹر جزء آف پاکستان کی جانب سے آڈٹ کیتے جائیں گے۔
سالانہ رپورٹ Annual report	VI متفرقات Chapter-VI Miscellaneous 19. اخراجی ہر رواں سال کے اختتام پر اس سال کے دوران اس کی سرگرمیوں کی رپورٹ تیار کریں گی اور ایسی رپورٹ حکومت کو جمع کرائیں گی۔

بقايا جات کی وصولی Recovery of dues	<p>20. اتحاری کی طرف بقايا کوئی رقم یا غلطی سے اتحاری کی جانب سے اس ایکٹ کے تحت ادا کر دہ رقم لینڈ روینیو کے بقايا جات وصولی کے قابل ہو گی۔</p>
دارہ اختیار پر پابندی Jurisdiction barred	<p>21. اس ایکٹ کے تحت کچھ کرنے کے ارادے پر کوئی بھی عدالت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا جائیگا یا کوئی حکم جاری نہیں کیا جائیگا یا کوئی کارروائی نہیں کی جائیگی۔</p>
کارروائیوں کو موثر ہونا Validation of proceedings	<p>22. اس ایکٹ کے تحت اٹھائے گئے اقدام یا کی گئی کارروائی یا جاری کردہ حکم گورنگ بادی یا کسی کمیٹی میں کسی آسامی یا اس کی تشکیل میں نقص کے بنیاد پر غیر موثر نہیں ہو گا۔</p>
ضمانت Indemnity	<p>23. اس ایکٹ کے تحت کیئے گئے یا کچھ کرنے کے ارادے پر حکومت، اتحاری یا کسی شخص کے خلاف کوئی کیس یا قانونی کارروائی نہیں ہو گی۔</p>

قواعد	24. حکومت اس ایکٹ کے مقصد حاصل کرنے کے لیے قواعد بناسکتی ہے۔
Rules	
ضوابط	(1) اس ایکٹ کی گنجائش اور قواعد کے مطابق، اتحارٹی اس ایکٹ کے مقصد حاصل کرنے کے لیے ضوابط بناسکتی ہے۔
Regulations	(2) خاص طور پر اور مندرجہ بالا اختیارات کی عام حیثیت سے بغیر تضاد، ایسے ضوابط فراہم کرتے ہیں:
	ا) اتحارٹی کے اجلاس اور اس طرح کے اجلاسوں میں کاروبار کا انعقاد؛
	ب) اتحارٹی کے عملدار اور عملے کی ملازمت کے شرائط اور ضوابط؛
	ج) ضابطے کے تحت فراہم کردہ، اس قانون کی دفعات کے ذریعہ درکار کوئی دوسرا معاملہ؛
منسوخی	26. کو شل ڈولپمنٹ اتحارٹی آرڈیننس، ۱۹۹۳ کو منسوخ کیا جاتا ہے۔
Repeal	

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔